

## گریمیاں دہلیز پر کھڑی ہیں اور آپ کے شہر میں اس سے لطف اندوز ہونے کے کئی طریقے موجود ہیں

برامپٹن، آن – یہ موسم گرما برامپٹن کے لیے تقریبات کا ایک پرجوش موسم بننا جا رہا ہے، جس دوران شہریوں کو اپنی کمیونٹی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھروں سے باہر لانے کے لیے کئی تہواروں، مارکیٹوں اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔

بروز ہفتہ، مورخہ 9 جون کو صبح 11 بجے تک منعقد کیے جانے والے سیلی برامپٹن سے ان کا آغاز ہو جائے گا، جو دو مرتبہ ٹاپ 100 فیسٹیول اینڈ ایونٹ ان اوتھیریو کا ایوارڈ یافتہ ہے۔ یہ سالانہ ایک روزہ کمیونٹی جشن برامپٹن کی کھلی، دوستانہ اور متنوع کمیونٹی کو ظاہر کرتا ہے اور شہریوں کو سٹی کے اقدامات اور سروسز کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سٹی کی ثقافت، ورثے، فنون، رقص اور کھانوں، بمعہ خاندان کے ہمراہ لطف اور کئی اقسام کی مقامی تفریحات، پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔

اس سے اگلے ہفتہ کے روز، مورخہ 16 جون کو انتہائی متوقع ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن فارمرز مارکیٹ مین اسٹریٹ پر شاندار طریقے سے صبح 7 بجے کھلے گی۔ مارکیٹ جانے والے افراد دن 1 بجے تک کسانوں، فن کاروں اور تفریح کاروں سے مل سکتے ہیں اور فارم کی تازہ پیداوار اور دستکاری کی مصنوعات خرید سکتے ہیں۔

اسی دن ہی بعد میں، گارڈن اسکوائر میں سیچرڈے نائیٹ موویز کے افتتاح کے لیے گارڈن اسکوائر جائیں۔ ایک کرسی اپنے ساتھ لائیں اور رات 7 بجے اور 9 بجے منعقد ہونے والی کسی بھی شو سے لطف اندوز ہوں۔

جمعرات، 21 جون کو ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ کا شاندار انعقاد ہو گا۔ یہ قریبی مارکیٹ، جو گاؤں کے دل میں موجود ہے، پچھلے کچھ سالوں سے مستقل طور پر بڑھ رہی ہے۔ کسانوں اور فروخت کنندگان کی جانب سے فروخت کے لیے منفرد چیزیں پیش کیے جانے کے ساتھ اپنی جمعرات کی شامیں گزارنے کے لیے یہ ایک زبردست موقع ہے۔ یہ مارکیٹ تھینکس گونگ ویک اینڈ تک شام 4 سے رات 8 تک چلتی ہے۔

اپنے کیلنڈر پر چنگو اکوسی پارک میں کینیڈا ڈے کی تقریبات کا نشان لگانا نہ بھولیں، جہاں ہم اپنی قوم کا جشن منانے کے لیے 1 جولائی کو بطور کمیونٹی جمع ہوتے ہیں۔ پارک کی تمام پیشکشوں اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹی کے فنون کی سرگرمیوں، کھانوں کی مختلف اقسام، موسیقی کی زبردست تفریح اور رات 10 بجے پیش کی جانے والے آتش بازی کے مظاہرے کو ہر گز نہ چھوڑیں۔

2 جولائی سے اپنے آغاز سے، ہفتے کے کسی بھی دن گرمیوں کی زبردست تاثیر کا مزہ لینے کے لیے گارڈن اسکوائر جائیں۔ گارڈن اسکوائر کی سرگرمیوں میں ہماری پہلی پرائیڈ سیلیبریشن، پسندیدہ ایسٹ کوسٹ کچن پارٹی اور ہمیشہ سے مشہور اسٹامپ 'این' سٹیمپیڈ شامل ہیں۔ ہفتہ وار پیشکشوں میں یو ٹیوب کے ستارے، ابھرتا ہوا مقامی ٹیلنٹ اور ایک بالی ووڈ فلم نائیٹ شامل ہوں گے۔

دی روز ایک بھرپور طریقے سے متنوع 2018 - 2019 کے موسم کا آغاز کرتا ہے، جس میں سمر تھیٹر سیریز شامل ہوتی ہے، جو 24 جولائی - 7 ستمبر تک چلتا ہے۔ فلاور سٹی بہنگرڈا کے ساتھ 4 اگست کو شمالی امریکہ کے سب سے بڑے بہنگرڈا کے مقابلے سے لطف اندوز ہوں اور ابتدائی ستمبر میں ورلڈ آف جیز فیسٹیول کا لطف اٹھائیں، جو یہیں ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں مقامی تنظیم بی۔ جیزڈ کے ساتھ شراکت داری میں پیش کیا جاتا ہے۔

یہ اور دیگر کئی سرگرمیاں سٹی آف برامپٹن کی 2018 ویبٹر گائیڈ یا [www.brampton.ca/events](http://www.brampton.ca/events) پر پائی جا سکتی ہیں۔

اقتباس

"موسم گرما ایک اور ایسا موقع ہوتا ہے جب ہماری کمیونٹی اس خوبصورت شہر کے نئے پہلو دریافت کرنے، جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں، مفت اور مزے سے بھری سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے اور ساتھ ہی برامپٹن کے رہائشیوں کے ساتھ مربوط ہونے کے لیے اکٹھی ہوتی ہے۔ ہم ان گرمیوں میں آپ کو برامپٹن کے کئی تہواروں، مارکیٹوں اور جشنوں پر دیکھنے کی امید کرتے ہیں۔"

- میئر لنڈا جیفری

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔